



جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور (اس کے بعد) موزے پہنڈے، تو ان کو پہن کر نماز پڑھے اور ان پر مسح کرے اور چائے تو انہیں جنابت لاحق ہونے کے علاوہ کسی صورت میں نہ اتارے۔

انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا : "جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور (اس کے بعد) موزے پہنڈے، تو ان کو پہن کر نماز پڑھے اور ان پر مسح کرے اور چائے تو انہیں جنابت لاحق ہونے کے علاوہ کسی صورت میں نہ اتارے۔"
[صحیح] [اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جب کوئی مسلمان وضو کرنے کے بعد موزے پہنڈے اور اس کے بعد وضو ٹوٹ جانے کی وجہ سے دوبارہ وضو کرنا چاہے، تو اسے اس بات کی اجازت ہے کہ ایک متعین مدت تک موزوں کو اتارنے کی بجائے ان پر مسح کر لے البتہ جنبی ہو جانے کی صورت میں موزے اتار کر غسل کرنا پڑے گا۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/8392>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

